

Surname		Other Names	
Centre Number		Candidate Number	
Candidate Signature			

Leave blank

General Certificate of Secondary Education
June 2006



URDU
Writing Test
Foundation Tier

3646/WF
F

Monday 22 May 2006 9.55 am to 10.35 am

You will need no other materials.
--

Time allowed: 40 minutes

Instructions

- Use blue or black ink or ball-point pen.
- Fill in the boxes at the top of this page.
- Answer **all** questions.
- Answer the questions, in **Urdu**, in the spaces provided.
- If you need more space, either to write your answers or for rough work, use page 8 of this answer book.
- Cross out any rough work before handing in your paper.
- Write neatly and put down **all** the information you are asked to give.

Information

- The maximum mark for this paper is 42.
- The marks for questions are shown in brackets.
- In **Question 3**, in order to score the highest marks, you must answer each task fully, developing your answers where it is appropriate to do so.
- You must **not** use a dictionary at any time during this test.

For Examiner's Use			
Number	Mark	Number	Mark
1		3	
2			
Total (Column 1)		→	
Total (Column 2)		→	
TOTAL			
Examiner's Initials			

Answer **all** questions in the spaces provided.

1 You are on a holiday in Pakistan and want to buy some presents for your friends.

Add **four** more items to the list, in **Urdu**.

مثال: عینک

_____ 1

_____ 2

_____ 3

_____ 4

(2 marks)

2

Turn over for the next question

Turn over ►

2 Your Pakistani friend, Ali, wants to know about your part-time job.

This is what he wants to know:

- Which day you work;
- Where you work;
- What you do;
- How much you get paid;
- What you do at lunch time;
- What time you finish;
- How much you like your work.

Answer the questions in **Urdu**. Write a sentence each time.

مثال: آپ کس دن کام کرتے/کرتی ہیں؟
میں ہفتہ کے دن کام کرتا/کرتی ہوں۔

.....

(i) آپ کہاں کام کرتے/کرتی ہیں؟

.....

(ii) آپ کیا کام کرتے/کرتی ہیں؟

.....

(iii) آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟

.....

(iv) کھانے کے وقت آپ کیا کرتے/کرتی ہیں؟

.....

(v) آپ کتنے بجے کام ختم کرتے/کرتی ہیں؟

.....

(vi) آپ کو یہ کام کیسا لگتا ہے؟

.....

(20 marks)

20

Turn over for the next question

Turn over ►

3 You have just returned from Pakistan.

Write a letter of complaint to the manager of the airline, in **Urdu**, telling him/her why you are writing this letter, why you went to Pakistan, what the difficulties were in obtaining the airline ticket, what the staff's attitude was at the airport, what the standard of inflight service was like, the loss you suffered due to arriving late, whether you would travel with this airline again and ask for compensation.

ایر لائن کے مینجر کو اردو میں شکایت کا ایک خط لکھیں۔ اپنے خط میں مندرجہ ذیل باتیں ضرور شامل کریں۔

- خط لکھنے کی وجہ
- پاکستان کا سفر کرنے کی وجہ
- ٹکٹ حاصل کرنے میں مشکلات
- ایر پورٹ پر عملے کا رویہ
- دوران سفر سروس کا معیار
- دیر سے پہنچنے کی وجہ سے آپ کا نقصان
- کیا آپ دوبارہ اس ایر لائن سے سفر کریں گے اور اس کی وجہ
- نقصان پورا کرنے کی درخواست

(20 marks)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Continuation Sheet/Rough Notes